

13563 - قرآن مجید میں " المحصنات " کا کیا معنی ہے ؟

سوال

قرآن مجید میں " المحصنات " کا کیا معنی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

لفظ " المحصنات " قرآن مجید میں تین معانی میں استعمال ہوا ہے :

اول :

العفائف : پاکباز اور پاکدامن ، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

محصنات غیر مسافحات پاکدامن ہوں اور زنا کرنے والی نہ ہوں

دوم :

الحرائر : آزاد عورتیں ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : تو ان (لونڈیوں) پر آزاد عورتوں سے نصف سزا ہے یعنی آزاد عورتوں سے نصف کوڑے -

سوم :

تزوج ، یعنی شادی شدہ کے معنی میں - تحقیقی طور پر یہی صحیح ہے - اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے :

توجب وہ شادی ہونے کے بعد فحاشی والا کام کریں یعنی جب شادی کر لیں ، اور علماء میں سے جس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پراحصن کا معنی اسلام ہے ، تو یہ آیت کے سیاق و سباق کے ظاہری طور پر خلاف ہے ، کیونکہ آیت کے سیاق میں مومن لڑکیوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور تم میں سے جو آزاد اور مومن عورتوں

سے نکاح کی طاقت نہ رکھے --- الآیة -

ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جس کی نص یہ ہے :

اور ظاہر تو یہ ہوتا ہے - واللہ اعلم - کہ یہاں پر احسان سے مراد شادی ہی ہے کیونکہ آیت کا سیاق اس پر ہی دلالت کر رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لو واللہ اعلم -

اور آیت کریمہ کا سیاق مومن لڑکیوں کے بارہ میں ہے تو اس سے یہ متعین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان احسن سے مراد شادی کر لیں ہی ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے تفسیر کی ہے - .